

## 12670 - غیر ماکول اللحم جانوروں کی حاصل کردہ چکنائی

### سوال

سوال نمبر ( 210 ) کے جواب میں جانوروں سے حاصل کردہ چربی کو کھانے والی اشیاء کے علاوہ مثلاً صابن اور کریم وغیرہ میں ڈال کر استعمال کرنے میں اختلاف بیان کیا گیا۔  
اگر ہمارے - مسلمانوں - لیے ان اشیاء کا استعمال کرنا ممکن ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس نقطہ کی وضاحت کریں، اور اس کے ساتھ درج ذیل آیت اور حدیث کا معنی بھی بیان فرما دیں:  
فرمان باری تعالیٰ ہے:

آپ کہہ دیجئے کہ جو احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ہیں ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے یا جو شرك کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطیکہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے الانعام ( 145 )۔  
جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فتح مکہ کے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں یہ فرماتے ہوئے سنا:

" یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور مردار اور خنزیر اور بت فروخت کرنے حرام کیے ہیں۔

تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا:

اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مردار کی چربی کے متعلق تو بتائیں، کیونکہ یہ کشتیوں اور ہوائی جہازوں کو ملی جاتی ہے، اور اس سے چمڑے کو چکنا کیا جاتا ہے، اور لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

نہیں، یہ حرام ہے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا:

اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ و برباد کرے، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر اس کی چربی حرام کی تو انہوں نے اسے پگھلا کر اسے فروخت کر کے اس کی قیمت کھا لی " صحیح بخاری حدیث نمبر ( 2121 ) صحیح مسلم حدیث نمبر ( 1581 )۔  
اور دوسری حدیث یہ ہے:

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ:

" میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لونڈی کو کسی نے بکری صدقہ میں دی تو وہ بکری مر گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے پاس کے گزرے تو فرمانے لگے:

تم نے اس کا چمڑا کیوں نہیں اتارا تا کہ تم اس سے فائدہ حاصل کرتیں ؟

تو انہوں نے کہا: یہ مری ہوئی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے:  
 صرف اس کا کھانا حرام ہے "  
 صحیح مسلم حدیث نمبر ( 363 ) .

### پسنیدہ جواب

الحمد لله.

اول:

حرام کردہ جانوروں کی چربی صابن وغیرہ بنانے میں استعمال کرنے کے متعلق ہم نے اس سوال میں بیان کیا ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

اس کی مزید تفصیل ہم درج ذیل نقاط میں - ان شاء اللہ - بیان کرتے ہیں:

دوم:

رہا فرمان باری تعالیٰ:

آپ کہہ دیجئے کہ جو احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ہیں ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطیکہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے الانعام ( 145 ) .

اس کا معنی اور تفسیر درج ذیل ہے:

آپ کہہ دیجئے کہ جو احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ہیں ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا

اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیں کہ میرے رب نے کھانے والی ان اشیاء کے علاوہ کوئی حرام نہیں کیا، اس کے علاوہ باقی ساری حلال ہیں۔

کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے

یعنی: کوئی کھانے والا جسے کھائے۔

مگر یہ کہ وہ مردار ہو

یہ وہ ہے جو مرگیا ہو مثلاً ضرب لگ کر یا گر کر یا کسی کا سینگ لگ کر، یا جو شرعی طریقہ کے علاوہ کسی اور طریقہ سے ذبح کیا جائے۔

یا کہ بہتا ہوا خون ہو

یعنی: سائل خون، بہنے والے خون کے علاوہ مثلاً جگر اور تلی، اور اس خون کے علاوہ جو ذبح کرنے کے بعد رگوں میں باقی بچ رہتا ہے۔

خنزیر کا گوشت ہو

یہ معروف جانور ہے جسے سڑ بھکھا جاتا ہے۔

کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے

یعنی: یہ خبیث اور نجس اور مضر ہے۔

یا جو شرك کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو

یعنی: جو کسی دوسرے کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔

پھر جو شخص مجبور ہو جائے

اس کے کھانے پر جس کا ذکر ہوا ہے۔

بشرطیکہ نہ تو طالب لذت ہو

یعنی: وہ مجبور ہوئے بغیر کھانے والا نہ ہو۔

اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا

تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے

اس نے جو کھایا ہے اسے بخش دینے والا اور اس پر رحم کرنے والا ہے۔

اس کے ساتھ اس پر متنبہ رہنا چاہیے کہ اس آیت میں ذکر کردہ کے علاوہ بھی حرام ہیں، اور ان کی تحریم اس کے بعد آئی ہے مثلاً: ہر کچلی والے جانور کی حرمت، پرندوں میں ہر پنچے والا پرندہ اور گھریلو گدھے کی حرمت۔

سوم:

جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ بخاری ( 2121 ) اور مسلم ( 1581 ) کی حدیث جس کے الفاظ درج ذیل ہیں:  
جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فتح مکہ کے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں یہ فرماتے ہوئے سنا:

"یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور مردار اور خنزیر اور بت فروخت کرنے حرام کیے ہیں۔

تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا:

اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مردار کی چربی کے متعلق تو بتائیں، کیونکہ یہ کشتیوں اور ہوائی جہازوں کو ملی جاتی ہے، اور اس سے چمڑے کو چکنا کیا جاتا ہے، اور لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

نہیں، یہ حرام ہے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا:

اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ و برباد کرے، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر اس کی چربی حرام کی تو انہوں نے اسے پگھلا کر اسے فروخت کر کے اس کی قیمت کھا لی "

اس کی شرح یہ ہے:

یہ واضح ہے کہ شراب فروخت کرنے کا حکم بیان ہو چکا ہے۔

شراب وہ ہے جو عقل میں فتور پیدا کر دے اور یہ سب اقسام کو شامل ہے۔

اور مردار اور خنزیر کا ابھی قریب ہی اوپر بیان ہوا ہے۔

اور اصنام: یعنی بت وہ ہیں جو لکڑی یا پتھر یا پیتل اور تانبا یا سونے وغیرہ سے آدمی یا حیوان کی شکل میں بنائے

جائیں۔

پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مردار کی چربی کو مستثنیٰ کروانا چاہا کیونکہ اس میں کئی قسم کے فائدے تھے اور وہ یہ کہ: اسے کشتی کو پانی سے محفوظ رکھنے کے لیے اس پر چربی ملی جاتی تھی، اور چمڑوں کو نرم رکھنے کے لیے ملی جاتی تھی، اور لوگ اس سے چراغ جلايا کرتے تھے۔

تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب کو بھی حرمت سے استثناء کا موجب قرار نہیں دیا، بلکہ فرمایا نہیں یہ حرام ہے۔"

پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا فعل بیان کیا: کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حرام کردہ چربی کو پگھلا کر اسے موم وغیرہ کی شکل دے دی پھر فروخت کر کے اس کی قیمت کھا لی۔

علماء کرام "ہو" کی ضمیر میں اختلاف کرتے ہیں کہ یہ ضمیر کسی طرف لوٹتی ہے کہ آپ نے فرمایا: "لا، ہو حرام" نہیں وہ حرام ہے، بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے نفع حاصل کرنا حرام ہے، اور کچھ دوسرے علماء کہتے ہیں اسے فروخت کرنا حرام ہے، اس قول کو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

دیکھیں: الشرح الممتع ( 8 / 136 )۔

صحیح قول یہی ہے: کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان: "ہو حرام" میں ضمیر بیع یعنی فروخت کی طرف لوٹتی ہے، حتیٰ کہ جو فائدے صحابہ کرام نے شمار کیے تھے اس کے ساتھ، اس لیے کہ حدیث میں فروخت کا ذکر ہے۔

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ: وہ حرام ہے، یعنی اس سے اس طرح کا نفع اور فائدہ لینا حرام ہے، اس لیے نہ تو یہ کشتی کی لکڑیوں کو لگائی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اس سے چمڑوں کو نرم کرنا صحیح ہے، اور نہ ہی اس سے لوگ چراغ جلا سکتے ہیں، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔

صحیح یہ ہے کہ: اس سے کشتی کی لکڑیوں کو تیل لگانا اور اس سے چمڑے کو نرم کرنا اور لوگوں کا چراغ جلانا صحیح ہے۔ اھ

امام صنعانی کہتے ہیں:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان: "ہو حرام" میں ضمیر احتمال ہے بیع یعنی فروخت کے لیے ہو، یعنی: چربی فروخت کرنی حرام ہے، اور یہی ظاہر ہے؛ کیونکہ کلام کا سیاق و سباق یہی ہے؛ اور اس لیے بھی کہ مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے اس میں ہے:

" تو مردار کی چربی فروخت کرنے کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے " الحدیث.

اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس قول کے مدلول پر لوٹتی ہو " یہ کشتیوں کے تختوں کو لگائی جاتی ہے " آخر تک، اور اکثر نے اس کو اس پر محمول کیا ہے کہ مردار کی کسی بھی چیز سے نفع نہیں حاصل ہو سکتا، صرف چمڑا دباغت کے بعد استعمال کرنا جائز ہے.

اور جو کہتا ہے کہ: اس کی ضمیر بیع اور فروخت کی طرف لوٹ رہی ہے، انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ مردار کتوں کو کھلانے پر اجماع ہے، چاہے وہ کتے شکاری بھی ہوں جو اس سے فائدہ لیتا ہے، اور آپ یہ جان چکے ہیں کہ ضمیر کا قریبی مرجع بیع ہے، تو مطلقاً نجس سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہوا اور اسے فروخت کرنا حرام ہے جس کا علم آپ کو ہو چکا ہے.

اور اس قول کی قوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں کی مذمت میں قول کی بنا پر زیادہ ہو جاتی ہے کہ یہودیوں نے چربی پگھلا کر اسے فروخت کر کے اس کی قیمت کھا لی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیع اور فروخت کی طرف ظاہر توجہ ہے جس کے نتیجہ میں قیمت حاصل ہوتی ہے.

اور جب حرمت فروخت اور بیع کے لیے ہے تو پھر مردار کی چربی اور نجس تیل کا ہر چیز میں نفع حاصل کرنا جائز ہوا صرف آدمی اپنے بدن پر اسے نہیں لگا سکتا اور اسے کھا نہیں سکتا ( یعنی آدمی کے لیے مردار کی چربی کھانا اور نجس تیل لگانا جائز نہیں ).

تو یہ دونوں اسی طرح حرام ہونگی جس طرح مردار کھانا اور اس کی نجاست سے نرمی حاصل کرنا حرام ہے، اور کتوں کو مردار کی چربی کھلانا، اور نجس اور پلید شدہ شہد کھلانا اور اسے جانوروں کو کھلانا جائز ہے، اور ان سب کو شافعی مسلک نے جائز قرار دیا ہے، اسے قاضی عیاض نے امام مالک اور اکثر صحابہ اور ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور لیث سے نقل کیا ہے ....

اور حدیث میں اس کی دلیل ہے کہ جب کسی چیز کی فروخت کرنا حرام کر دیا جائے تو اس کی قیمت بھی حرام ہو جاتی ہے، اور ہر حیلہ جو حرام کو حلال کرنے کا باعث بنے تو وہ باطل ہے .

دیکھیں: سبل السلام ( 3 / 6 ).

چہارم:

اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر ( 1421 ) اور امام مسلم نے حدیث نمبر ( 363 ) روایت کیا ہے، اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں بخاری کی روایت میں " الدباغ " کے الفاظ نہیں.

اس کے الفاظ یہ ہیں:

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ:

"میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لونڈی کو ایک بکری صدقہ میں دی گئی تو وہ مر گئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے پاس سے گزرے تو فرمایا:

تم نے اس کا چمڑا کیونہ نہ اتارا، اور اسے دباغت دے کر اس سے فائدہ حاصل کرتے؟

تو انہوں نے عرض کیا: یہ تو مری ہوئی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کا کھانا حرام ہے "

اس حدیث کا معنی اور شرح یہ ہے:

میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لونڈی کے پاس ایک بکری تھی جو کسی نے اس کو صدقہ میں دی تھی، اور جب وہ مر گئی تو انہوں نے گمان کیا کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور انہوں نے اسے پھینک دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کچھ صحابہ کرام کے ساتھ وہاں سے گزرے، اور جب اس بکری کو دیکھا تو انہیں کہنے لگے:

تم نے اس مری ہوئی بکری کا چمڑا کیوں نہیں اتارا اور اس سے فائدہ حاصل کرتے؟

تو وہ عرض کرنے لگے: یہ مری ہوئی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اس کا کھانا حرام ہے، لیکن کھانے کے علاوہ اس سے فائدہ حاصل کرنا مثلاً چمڑا اتار کر دباغت دینے کے بعد جائز ہے۔

علماء کرام مردار کے چمڑے کو دباغت دینے کے بعد چمڑے کے حکم میں اختلاف کرتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ اختیار کیا ہے کہ:

دباغت مردار کے چمڑے کو پاک کر دیتی ہے، اگر وہ مرا ہوا جانور ماکول اللحم میں سے ہو، مثلاً اونٹ، یا گائے یا بکری، لیکن اگر وہ ایسا جانور ہے جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا مثلاً خنزیر تو اس کو دباغت دینے سے بھی جلد پاک نہیں ہوتی۔

دیکھیں: الشرح الممتع (1 / 72)۔

شیخ الاسلام علماء کرام کے اقوال ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں:

تردد کا ماخذ یہ ہے کہ: آیا دباغت زندگی کی طرح ہے کہ وہ اسے پاك کر دیتی ہے جس طرح زندگی میں پاك تھی؟

یا کہ وہ ذبح کرنے کی طرح ہے کہ جو ذبح کرنے سے پاك ہو جاتا ہے اس طرح دباغت سے بھی؟

دوسری بات زیادہ راجح ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی جانوروں کی جلد سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ اسامہ بن عمیر الذہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ:

" نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی جانور کی جلد سے منع فرمایا "

اسے احمد اور ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے " اسے بچھانے " کے الفاظ زائد روایت کیے ہیں، اور اس قول میں سب احادیث کے درمیان جمع ہے۔

دیکھیں: مجموع الفتاویٰ ( 21 / 95 - 96 ) .

واللہ اعلم .